



نماز  
کا لفظ بہ لفظ  
اردو ترجمہ

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ      الرَّحْمَنِ      الرَّحِيمِ

اللہ کے نام کے ساتھ      بہت مہربان      نہایت رحم والا

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے،

## ایمان مفصل اَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

اَمَنْتُ بِاللَّهِ      وَ مَلَائِكَتِهِ

ایمان لیا میں پر اللہ اور فرشتوں اُس کے

میں ایمان لیا اللہ پر اور اُس کے فرشتوں پر

## وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ

وَ كُتُبِهِ      وَ رُسُلِهِ      وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ      وَ الْقَدْرِ

اور کتابوں اُس کی اور رسولوں اُس کے اور دن پچھلے اور تقدیر

اور اُس کی کتابوں پر اور اُس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور

## خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ

خَيْرِهِ      وَ شَرِّهِ      مِنَ اللَّهِ تَعَالَى      وَ الْبَعْثِ

بھلا ہونا اُس اور بُرا ہونا اُس سے اللہ (کہ) بلند ہے اور جی اٹھنے

اچھی بُری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد

# بَعْدَ الْمَوْتِ ط

بَعْدَ الْمَوْتِ

پتھچھ مرنے

جی اٹھنے پر

## ایمانِ محبل اَمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ ا

اَمَنْتُ بِ اللّٰهِ كَمَا هُوَ بِ اَسْمَائِهِ ه

ایمان لایا میں پر ساتھ اللہ جیسا کہ (ہے) ساتھ ناموں اپنے

میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں

## وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارًا

وَصِفَاتِهِ ه وَ قَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارًا

اور صفتوں اپنی اور قبول کیا میں نے تمام حکموں (کو) اسے اقرار (ہے)

اور اپنی صفات کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام

## بِاللِّسَانِ وَتَصَدِّقُ بِالْقَلْبِ

بِ اللِّسَانِ وَ تَصَدِّقُ بِالْقَلْبِ

ساتھ زبان اور سچا جانا تصدیق ساتھ دل (کے)

کو قبول کیا زبان کے ساتھ اقرار اور دل کے ساتھ تصدیق کرتے ہوئے

**اول کلمہ** لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

طیب	نہیں (کوئی)	معبود مگر اللہ	محمد	رسول (ہیں) اللہ کے	اللہ
-----	-------------	----------------	------	--------------------	------

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں

**دوسرا کلمہ** أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

شہادت	میں گواہی دیتا ہوں	کہ	نہیں (کوئی)	معبود مگر اللہ	کیلا ہے) وہ	وَحْدَهُ
-------	--------------------	----	-------------	----------------	-------------	----------

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے

**تیسرا کلمہ** لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

لا شريك له	شريك	کا	اُس	اور	میں گواہی دیتا ہوں	بیشک	محمد صلی اللہ علیہ وسلم	بندے	اُس	اور	رسول	اُس
------------	------	----	-----	-----	--------------------	------	-------------------------	------	-----	-----	------	-----

اُس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے بند اور رسول ہیں

**چوتھا کلمہ** سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا

تمجید	پاک ہے	اللہ	اور سب تعریفیں	کیلیے (ہیں)	اللہ	اور	کوئی	نہیں
-------	--------	------	----------------	-------------	------	-----	------	------

اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَاللَّهُ	أَكْبَرُ	وَلَا	حَوْلَ	وَلَا	قُوَّةَ	إِلَّا
معبود	مگر	اللہ	اللہ	بہت بڑا ہے	اور	کوئی	پہننے	اور	کوئی
مگر	اللہ	بہت بڑا ہے	اور	کوئی	پہننے	اور	کوئی	قوت	مگر

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں

بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

بِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

ساتھ اللہ جو بہت بلند بڑی عظمت والا ہے

کوئی بڑائی سے بچنے کی طاقت اور زندگی کرنے کی قوت مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند بڑی عظمت والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ	وَحْدَهُ	لَا	شَرِيكَ
نہیں	معبود	مگر	اللہ	کیلا ہے	وہ	شریک
کوئی	معبود	مگر	اللہ	کیلا ہے	وہ	شریک

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کیلا ہے اس کا کوئی شریک

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

لَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

کا اس کی اسی بادشاہی ہے اور اس کی تمام تعریف وہ زندہ کرتا اور وہ مارتا ہے

نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تمام تعریف ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا

وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ

وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ

اور وہ ہے زندہ ہے نہیں مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ والا ہے بزرگی

ہے اور وہ زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اُسے موت نہیں آئے گی وہ بزرگی

وَالْأَكْرَامِ يَدِيهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَ الْأَكْرَامِ يَدِيهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور عطا میں رحمت اس بھلائی ہے اور وہ ہر چاہت قادر ہے

اور عطا والا ہے اسی کے دستِ رحمت میں بھلائی ہے اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے

يَا بَخْوَانَ كَلِمَةً اسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

يَا بَخْوَانَ كَلِمَةً اسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے میرا سے ہر گناہ

میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا مالک ہے ہر گناہ سے جو

أَذْنِبْتُ عَمْدًا أَوْ خَطَاً سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً

أَذْنِبْتُ عَمْدًا أَوْ خَطَاً سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً

گناہ کیا میں نے جو جان بوجھ کر یا بھول کر چھپ کر یا کھلم کھلا

میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر چھپ کر کیا یا کھلم کھلا اور

# وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ

وَأَتُوبُ	إِلَيْهِ	مِنَ	الذَّنْبِ	الَّذِي	أَعْلَمُ
اور	میں	سے	گناہ	جسے	جاننا ہوں میں

میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اُس گناہ سے جسے میں جاننا ہوں

# وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ

وَمِنَ	الذَّنْبِ	الَّذِي	لَا	أَعْلَمُ	إِنَّكَ	أَنْتَ
اور	سے	گناہ	(وہ)	جسے	نہیں	جاننا ہوں میں

اور اس گناہ سے جسے میں نہیں جاننا بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے

# عَلَامُ الْغُيُوبِ وَسِتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ

عَلَامُ	الْغُيُوبِ	وَسِتَّارُ	الْعُيُوبِ	وَ	غَفَّارُ
بہت	جاننے والا	چھپے ہوئے امور کا	بہت چھپانے والا	اور	بہت بخشنے والا ہے

والا اور غیبوں پر پردہ ڈالنے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے

# الذُّوْبُ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

الذُّوْبُ	وَالْحَوْلُ	وَالْقُوَّةُ	إِلَّا	بِاللَّهِ	الْعَلِيِّ	الْعَظِيمِ
گناہوں کا	اور	توت	مگر	ساتھ	جبروت	بزرگی

اور نہیں کوئی برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ کسی کرنے کی قوت مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بلند بڑی عظمت والا ہے

چھٹا کلمہ **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ**

اللَّهُمَّ	إِنِّي	أَعُوذُ	بِكَ	مِنْ	أَنْ
اے اللہ	بیشک	میں	پناہ مانگتا ہوں	- تیری	سے (اس) کہ

اے اللہ بیشک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ

**أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَ**

أَشْرِكَ	بِكَ	شَيْئًا	وَ	أَنَا	أَعْلَمُ	بِهِ	وَ	
شریک بناؤں	میں	ساتھ	تیرے	کسی چیز کو	اور	میں	جانتا ہوں	کو اس اور

میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی

**أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تَبَّتْ عَنْهُ**

أَسْتَغْفِرُكَ	لِمَا	لَا	أَعْلَمُ	بِهِ	تَبَّتْ	عَنْهُ						
معافی مانگتا ہوں	میں	تجھ	کی	اُس	نہیں	جانتا	میں	کو جس	توہر کی	میں	سے	اُس

مانگتا ہوں تجھ سے اس کی جسے میں نہیں جانتا میں نے اس سے

**وَتَبَّرَاتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكَذِبِ**

وَتَبَّرَاتُ	مِنَ	الْكَفْرِ	وَ	الشِّرْكِ	وَ	الْكَذِبِ
اور بیزار ہوا	میں	سے	کفر	اور	شرک	اور جھوٹ

توہر کی اور بیزار ہوا میں کفر سے اور شرک اور جھوٹ اور



# وَالْغَيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ

وَالْغَيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ

اور غیبت اور بدعت اور چغلی اور بے حیائیوں

غیبت اور بدعت اور چغلی اور بے حیائی کے کاموں اور تہمت لگانے

# وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَأَسَلِمْتُ وَ

وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَأَسَلِمْتُ وَ

اور تہمت لگانے اور گناہوں تمام اور میں اسلام لایا اور

اور تمام گناہوں سے اور میں اسلام لایا اور میں

# أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

میں کہتا ہوں نہیں معبود مگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول (ہیں) اللہ کے

کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں

حدیث مبارک :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بناؤ اگر کسی شخص کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ عزوجل ان کی وجہ سے گناہوں کو ذرا ال کرتے ہیں (رواہ بخاری، ابن ماجہ، مسلم)

بیت الخلاء اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

جانے کی دعا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

لے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں - تیری سے

لے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پلیڈی اور

الْخُبَيْثِ وَالْخَبَائِثِ

الْخُبَيْثِ وَالْخَبَائِثِ

پلیڈی اور شیاطین

شیطان جنوں سے

بیت الخلاء سے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ

نکل کر پڑھے أَلْ حَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ

سب تعریف کیلئے اللہ وہ جس نے دور کر دی

عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

سے مجھ (کی تکلیف اور آرام بخشنا) مجھے

نے دور کر دی مجھ سے تکلیف دہ چیز اور مجھے آرام بخشنا

بوقت وضو ثواب کی نیت کریں۔ بسم اللہ پڑھیں اور درج ذیل دعائیں پڑھیں۔

ہاتھ دھوتے

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

وقت

اللہ کے نام سے شروع جو بڑی عظمت والا ہے اور سب تعریف اللہ کیلئے

عَلَى دِيْنِ الْاِسْلَامِ الْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكَفْرُ باطلٌ

عَلَى دِيْنِ الْاِسْلَامِ الْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكَفْرُ باطلٌ

پر دین اسلام نصیب فرمانے پر اسلام برحق ہے اور کفر جھوٹ و بے اصل ہے

مُلک کرتے

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ

وقت

اے اللہ تو میری مدد فرما قرآن کی تلاوت، اپنا ذکر و شکر

وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

اور ذکر اپنے اور شکر اپنے اور اچھی عبادت اپنی اور اچھی عبادت کرنے پر

نکیر یانی اللّٰهُمَّ ارْحِنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

اللّٰهُمَّ	ارْحِنِي	رَائِحَةَ	الْجَنَّةِ
اے اللہ	سوںگھا تو مجھے	خوشبو	جنت کی

اے اللہ تو مجھے جنت کی خوشبو سوںگھا

وَلَا تُرْحِنِي رَائِحَةَ النَّارِ

وَلَا	تُرْحِنِي	رَائِحَةَ	النَّارِ
اور نہ	سوںگھا تو مجھے	بو	نارِ جہنم کی

اور نہ سوںگھا مجھے نارِ دوزخ کی بو

پہرہ دھوتے اللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ بَيِّضٍ

اللّٰهُمَّ	بَيِّضْ	وَجْهِي	يَوْمَ	بَيِّضٍ
اے اللہ	روشن کر تو	چہرہ	میرا	دن

اے اللہ روشن کر میرا چہرہ جس دن کئی

وَجْهِي يَوْمَ سَوْدٍ وَجْهِي يَوْمَ سَوْدٍ

وَجْهِي يَوْمَ سَوْدٍ وَجْهِي يَوْمَ سَوْدٍ

کئی چہرے اور سیاہ ہونگے کئی چہرے

چہرے سفید ہونگے اور کئی چہرے سیاہ ہونگے

دائیں ہاتھ **اللَّهُمَّ ارْعُطْنِي كِتَابِي بِيَمِينِي**

دھوئے وقت **اللَّهُمَّ ارْعُطْنِي كِتَابِي فِي كِتَابِي** پ ب یَمِينِ نِ  
 لے اللہ نے تو مجھے کتاب میری میں دائیں ہاتھ سے

لے اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں سے

وَحَاسِبِي حِسَابًا يَسِيرًا

وَ حَاسِبٌ فِي حِسَابًا يَسِيرًا

اور حساب کرو میرا حساب آسان

اور میرا حساب آسان فرمانا

بایں ہاتھ **اللَّهُمَّ لَا تَعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي**

دھوئے وقت **اللَّهُمَّ لَا تَعْطِنِي كِتَابِي فِي كِتَابِي** پ ب شِمَالِي نِ  
 لے اللہ نہ دے تو مجھے کتاب میری میں بائیں ہاتھ سے

لے اللہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ بائیں

وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِي

وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِي

اور نہ سے پیچھے پیٹھ میری

ہاتھ میں دینا اور نہ پشت کے پیچھے

سرکامح اللهم اظلني تحت عرشك

کرتے وقت

اللَّهُمَّ أَظِلِّي تَحْتَ عَرْشِكَ

اے اللہ سایہ تو مجھے نیچے عرش اپنے

لے اللہ تو مجھے اپنے عرش کے نیچے

يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ

يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ

دن (جس دن) سایہ مگر سایہ عرش کا، تیرے

سایہ عطا فرما جس دن تیرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا

کانوں کامح اللهم اجعلني من الذين

کرتے وقت

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نِي مِنْ الَّذِينَ

اے اللہ کر تو مجھے سے اُن لوگوں

لے اللہ تو مجھے کر دے اُن لوگوں سے جو

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

جو سنتے ہیں بات تو پیروی کرتے ہیں وہ بہت اچھی (کی) اُس (کی)

بات سنتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں اُس کی جو اچھی ہوتی ہے

گرددن کا مسح اللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

اللّٰهُمَّ	اَعْتِقْ	رَقَبَةَ	مِنِ	النَّارِ
اے اللہ	آزاد کر دے	تو	گرددن	میری
اگ	سے			

اے اللہ میری گرددن کو تو اگ سے جدا و آزاد کر دے

واہنہ پاؤں اللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ

اللّٰهُمَّ	ثَبِّتْ	قَدَمِي	عَلَى	الصِّرَاطِ
اے اللہ	ثابت رکھ	پاؤں	میرا	پر
صراط				

اے اللہ تو میرے پاؤں پہل صراط پر ثابت رکھ

يَوْمَ تَذِلُّ الْأَقْدَامُ

يَوْمَ	تَذِلُّ	الْأَقْدَامُ
جس دن	پھسلیں گے	پاؤں

جس دن پھسلیں گے

بایں پاؤں اللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا

اللّٰهُمَّ	اجْعَلْ	ذَنْبِي	مَغْفُورًا
اے اللہ	کر دے	تو	گناہ
میرا	بخشا	ہوا	

اے اللہ کر تو میرے گناہوں کو بخشا ہوا اور میری کوشش

وَسَعَىٰ مَشْكُورًا وَتِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ ط

وَسَعَىٰ مَشْكُورًا وَ تِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ

اولہ کو شش میری قدر کی ہوئی اور تجارت میری ہرگز نہ ہلاک ہو

قدر کی ہوئی اور میری تجارت ہلاک نہ ہو

وَضُوكِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ

بعد کی دُعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيَّ مِنَ التَّوَّابِينَ

اے اللہ! مجھے سے توبہ کرنے والوں

اے اللہ! تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے

وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي

وَ اجْعَلْ فِيَّ مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ اجْعَلْ فِيَّ

اور کرتو مجھے سے پاکیزہ لوگوں اور کرتو مجھے

کردے اور کرتو مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے اور مجھے اپنے

مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ

مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ

سے بندوں اپنے نیکوکار وہ لوگ نہیں ڈر

نیکوکار بندوں میں سے کردے وہ لوگ کہ جن پر



# عَلَيْهِمْ وَإِلَهُمْ يَخْزَنُونَ ط

عَلَىٰ هُمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ

پر اُن اور نہ وہ غمگین ہوں گے

نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے

## اذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے

## أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ

أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ

بہت بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں (کوئی) معبود مگر اللہ میں گواہی دیتا ہوں

بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

## أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا

کہ نہیں (کوئی) معبود مگر اللہ میں گواہی دیتا ہوں بیشک محمد

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں

رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

رَسُولُ	اللَّهُ	أَشْهَدُ	أَنَّ	مُحَمَّدًا	رَسُولُ
رسول (ہیں)	اللہ	میں گواہی دیتا ہوں	بیشک	محمد	رسول (ہیں)

کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت

اللَّهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

اللَّهُ	حَيَّ	عَلَى	الصَّلَاةِ	حَيَّ	عَلَى	الصَّلَاةِ
اللہ	آئیے	(کے لیے)	نماز	آئیے	(کے لیے)	نماز

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز پڑھنے کے لیے آؤ نماز پڑھنے کے

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

حَيَّ	عَلَى	الْفَلَاحِ	حَيَّ	عَلَى	الْفَلَاحِ	اللَّهُ
آئیے	(کے لیے)	کامیابی	آئیے	(کے لیے)	کامیابی	اللہ

لیے آؤ نجات پانے کے لیے آؤ نجات پانے کے لیے آؤ اللہ

اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اَكْبَرُ	اللَّهُ	اَكْبَرُ	لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ
بہت بڑا ہے	اللہ	بہت بڑا ہے	نہیں	معبود	مگر	اللہ

بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

فجر کی اذان میں حی علی الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ط

الفلاح کے بعد اضافہ کریں  
 الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ  
 نماز بہتر ہے سے نیند

نماز نیند سے بہتر ہے نماز

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ط

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ  
 نماز بہتر ہے سے نیند

نیند سے بہتر ہے

نماز کی تکبیر میں حی علی الفلاح قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ

کے بعد دو مرتبہ یہ کہیں  
 قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ  
 تحقیق کھڑی ہوگئی نماز تحقیق

تحقیق نماز کی جماعت کھڑی ہوگئی تحقیق نماز کی

قَامَتِ الصَّلَاةُ ط

قَامَتِ الصَّلَاةُ  
 کھڑی ہوگئی نماز

جماعت کھڑی ہوگئی

اذان کے **اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ**

اللَّهُمَّ	رَبِّ	هَذِهِ	الدَّعْوَةُ
اے اللہ	اے	اس	دعا کے

اے اللہ اے پروردگار! اس کامل پوری دعا

**التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اِتِّمَامًا**

التَّامَّةِ	وَالصَّلَاةِ	الْقَائِمَةِ	اِتِّمَامًا
پورے	اور نماز	قائم ہونے والی کے	محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

اور قائم ہونے والی نماز کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ

**الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالذَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ**

الْوَسِيلَةِ	وَالْفَضِيلَةِ	وَالذَّرَجَةِ	الرَّفِيعَةِ
وسیلہ	اور فضیلت	اور درجہ	بلند

فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو

**وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ**

وَابْعَثْهُ	مَقَامًا	مَّحْمُودًا	الَّذِي	وَعَدْتَهُ
اور بھجوا کر	مقام	محمود (میں)	جس	وعدہ فرمایا

مقام محمود میں کھڑا کر کہ جس کا تو نے اُن سے وعدہ کیا

وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا

وَارْزُقْنَا	شَفَاعَتَهُ	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ	إِنَّكَ	لَا
اور تمہیں	شفاعت	ان	روزِ	قیامت	بیشک تو نہیں

اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند کر

تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

تُخْلِفُ	الْمِيعَادِ	بِ	رَحْمَتِكَ	يَا	أَرْحَمَ
خلاف کرتا	وعدہ (کے)	ساتھ	رحمت	اپنی	اے بہت رحم کرنے والے

بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہم پر اپنی رحمت فرما اے

الرَّاحِمِينَ

الرَّاحِمِينَ

رحم کرنے والوں سے

سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے

نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوجود قبلہ زبردنیوں یاؤں کے سچوں میں صرف چار انگلی کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لڑے جو برابر اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی ہوں بلکہ اپنی حالت پر ہوں اور تھیلیاں قبلہ کو ہوں نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے بازو دے دیاں ہاتھ اور بائیں نیچے داسنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی گھنٹی کو مضبوط پکڑ رکھے اور تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر سیدھے چھوڑ دے یعنی دائیں ہاتھ کی تھیلی کی پشت پر ہونہ آگے نہ پیچھے پھر شمار پڑھے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ

پاک ہے تو اے اللہ اور ساتھ تعریف تیری اور

پاک ہے تو اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں تیرا

تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ

تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ

برکت والا ہے نام تیرا اور بلند ہے بزرگی تیری اور نہیں معبود

نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا

غَيْرُكَ ط

غَيْرُكَ

سوا تیرے

کوئی معبود نہیں

تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط

تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط

میں پناہ مانگتا ہوں کی اللہ سے شیطان مردود

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے

# تسمیہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

بِسْمِ اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِیْمِ
----------------	-------------	-------------

اللہ کے نام کے ساتھ	بہت مہربان	نہایت رحم والا
---------------------	------------	----------------

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے،

# سُورَةُ فَاتِحَةِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	رَبِّ	اَلْعَالَمِیْنَ
--------------------	-------	-----------------

سب خوبیاں اور تعریفیں	مطالعہ اللہ (کے)	پالنے والا تمام	جہانوں (کا)
-----------------------	------------------	-----------------	-------------

سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا

# الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۞ اِیَّاكَ

الرَّحْمٰنِ	الرَّحِیْمِ	مَلِكِ	یَوْمِ	الدِّیْنِ	اِیَّاكَ
-------------	-------------	--------	--------	-----------	----------

بہت مہربان	نہایت رحم والا	مالک	دن	بدلے (کا)	صرف تیری
------------	----------------	------	----	-----------	----------

بہت مہربان رحمت والا روزِ جزا کا مالک ہم تجھی کو

# تَعْبُدُ ۞ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۞ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

تَعْبُدُ	وَاِیَّاكَ	نَسْتَعِیْنُ	اِهْدِنَا	الصِّرَاطَ
----------	------------	--------------	-----------	------------

ہم عبادت کرتے ہیں	اور صرف تیری	ہم مدد پہنتے ہیں	دکھا	ہمیں	راستہ
-------------------	--------------	------------------	------	------	-------

پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں ہم کو سیدھا راستہ

# المُسْتَقِيمُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

المُسْتَقِيمُ	صِرَاطَ	الَّذِينَ	أَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ
سیدھا	راستہ	ان لوگوں کا	انعام کیا	تو نے اوپر ان کے

چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا

# غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

غَيْرِ	الْمَغْضُوبِ	عَلَيْهِمْ	وَلَا	الضَّالِّينَ
نہ	ان کا کہ غضب کیا گیا	اوپر ان کے	اور نہ	گمراہوں کا، الہی قبول نہ

نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بھکے ہوؤں کا الہی قبول نہ

# سُورَةُ اخْلَاصٍ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ

قُلْ	هُوَ	اللهُ	أَحَدٌ	اللهُ	الصَّمَدُ
فرمائیے	وہ	اللہ	ایک	اللہ	بے نیاز

تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز

# لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

لَمْ	يَلِدْ	وَلَمْ	يُولَدْ	وَلَمْ	يَكُنْ	لَهُ	كُفُوًا	أَحَدٌ
نہ	جائسنے	اور نہ	جنگیاوہ	اور نہ	ہے	واسطے	اس کے	بھسر کوئی

ہے اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی



اللَّهُ أَكْبَرُ

تسبیح رکوع

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

اللَّهُ أَكْبَرُ  
اللہ بہت بڑا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ  
پاک ہے پروردگار میرا بڑی عظمت والا

اللہ بہت بڑا ہے

پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا

تسبیح

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

سن لی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی

سن لی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی

سن لی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی

سن لی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی

تحمید

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ

پروردگار (اے) ہمارے لیے ہے تیرے سب تعریف اللہ بہت بڑا ہے

پروردگار (اے) ہمارے لیے ہے تیرے سب تعریف اللہ بہت بڑا ہے

اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہے اللہ بہت بڑا ہے

اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہے اللہ بہت بڑا ہے

سجدہ کی تسبیح

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اللَّهُ أَكْبَرُ

سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى اللَّهُ أَكْبَرُ

سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى اللَّهُ أَكْبَرُ

پاک ہے پروردگار میرا بہت بلند اللہ بہت بڑا ہے

پاک ہے پروردگار میرا بہت بلند اللہ بہت بڑا ہے

پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند اللہ بہت بڑا ہے

پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند اللہ بہت بڑا ہے

# تشریح التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

التَّحِيَّاتُ	لِلَّهِ	وَالصَّلَوَاتُ	وَالطَّيِّبَاتُ
تمام زبانی عبادتیں	کلیئے اللہ	اور تمام فعلی عبادتیں	اور تمام مالی عبادتیں

تمام بدنی و مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں اور پاکیزگیاں

# السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ

السَّلَامُ	عَلَيْكَ	أَيُّهَا	النَّبِيُّ	وَرَحْمَةُ	اللَّهِ	وَ
سلام (ہو)	پر آپ	اے	غیب کی خبر دینے والے	اور رحمت	اللہ	اور

سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیک وسلم اور اللہ کی رحمتیں و

# بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ

بَرَكَاتُهُ	السَّلَامُ	عَلَيْنَا	وَعَلَى	عِبَادِ	اللَّهِ
برکتیں (ہو)	سلام (ہو)	پر ہم	اور پر	بندوں	اللہ کے

برکتیں نازل ہوں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں

# الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الصَّالِحِينَ	أَشْهَدُ	أَنْ	لَا	إِلَهَ	إِلَّا	اللَّهُ
نیک	میں گواہی دیتا ہوں	کہ	نہیں (کوئی)	معبود	مگر	اللہ

پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط

وَأَشْهَدُ	أَنَّ	مُحَمَّدًا	عَبْدُهُ	وَ	رَسُولُهُ
اور میں گواہی دیتا ہوں	بیشک	محمد	بندے (ہیں) کے	اور	رسول (ہیں) کے

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں

**دُرُودِ شَرِيفٍ** اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

اللَّهُمَّ	صَلِّ	عَلَى	مُحَمَّدٍ	وَ
اے اللہ	رحمت نازل فرما	پر	محمد	اور

اے اللہ! رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

عَلَى	آلِ	مُحَمَّدٍ	كَمَا	صَلَّيْتَ	عَلَى	إِبْرَاهِيمَ
پر	آل	محمد کی	جیسے کہ	رحمت نازل فرمائی تونے	پر	ابراہیم

اور آپ کی آل پر جیسا کہ تونے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ط

وَعَلَى	آلِ	إِبْرَاهِيمَ	إِنَّكَ	حَمِيدٌ	مَجِيدٌ
اور پر	آل	ابراہیم کی	بیشک تو	تعریف کیا گیا	بزرگی والا ہے

اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمائی ہے بیشک تو تعریف کیا گیا ہے

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

لے اللہ! برکت نازل فرماتو پر محمد اور پر آل محمد

لے اللہ! برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

جیسے کہ برکت نازل فرمائی تھی پر ابراہیم اور پر آل ابراہیم

پر جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بیشک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے

برکت نازل فرمائی ہے بیشک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ

رب میرے بنادے تو مجھے قائم کرنے والا نماز اور

لے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور

مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا

مِنْ	ذُرِّيَّتِي	رَبَّنَا	وَ	تَقَبَّلْ	دُعَاءِ	رَبَّنَا
سے	اولاد	میری	لے	رب ہمارا	اور قبول فرما تو	دعا میری

میری اولاد کو بھی اے پروردگار ہمارے میری دعا قبول کر لے پروردگار

اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ

اغْفِرْ	لِيْ	وَ	لِوَالِدِيْ	وَ	لِلْمُؤْمِنِيْنَ	يَوْمَ
بخشدے تو	مجھے	اور	کو میرے والدین	اور	کو تمام ایمان والوں	جس دن

مجھ کو اور ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس دن جبکہ

يَقُومُ الْحِسَابُ

يَقُومُ	الْحِسَابُ
قائم ہوگا	حساب

(عملوں) کا حساب ہوگا

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

السَّلَامُ	عَلَيْكُمْ	وَ	رَحْمَةُ	اللَّهِ
سلامتی ہو	پر تم	اور	رحمت	اللہ کی

سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت

نماز کے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ**

بعد ذکر **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ**  
 نہیں معبود مگر اللہ محمد (رسول) اللہ کے

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں

آیت **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ**

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ  
 اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہ ہمیشہ زندہ قائم رکھنے والا نہیں بچرتی اسے  
 اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے نہ

**سِنَّةٌ وَلَا تَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ**

سِنَّةٌ وَلَا تَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ  
 اونگھ اور نہ نیند کے اسی جو میں آسمانوں اور جو میں زمین میں وہ کون ہے

**ذَٰلِ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا**

ذَٰلِ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا  
 وہ جو سفارش کرے پاس اس کے مگر ساتھ اجازت اس کے ہے وہ جو درمیان ہاتھوں کے ہے اور جو  
 جو اس کے ہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے

خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَا إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ

خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَا إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ  
 پیچھے ان کے اور نہیں گیر سکتے وہ کسی چیز کی سے علم ان کے مگر جتنا وہ چاہے سما یا  
 اور جو کچھ ان کے پیچھے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے اس کی گری میں سمٹے ہوئے

كُرْسِيُّهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

كُرْسِيُّهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  
 کرسی (کی) اس آسمانوں اور زمین (کو) اور نہیں بھاری ہے نگہبانی ان کے اور وہ بلند برائی والا  
 ہیں آسمان اور زمین اور اُسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا

نماز کے اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ لَكَ  
 لے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور تجھی سے سلامتی

لے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی

السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حِينَا

السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حِينَا  
 سلامتی ہے اور طرف تیری لوٹتی ہے سلامتی زندہ رکھ تو ہمیں

ہے اور تیری طرف سلامتی رجوع کرتی ہے لے ہمارے پروردگار ہم

رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ط وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ

رَبَّنَا	بِالسَّلَامِ	وَأَدْخِلْنَا	دَارَ السَّلَامِ	تَبَارَكْتَ
(رب) ہمارے	ساتھ سلامتی کے، اور	داخل کرو ہمیں	گھر سلامتی	برکت والہ ہے تو

کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور داخل کر تو ہم کو اپنے سلامتی

رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط

رَبَّنَا	وَتَعَالَيْتَ	يَا ذَا	الْجَلَالِ	وَالْإِكْرَامِ
پروردگار ہمارے	اور بلند ہے تو	وہ	بڑے مرتبے	اور بزرگی

کے گھر لے ہمارے پروردگار تو برکت والا اور بلند ہے اے صاحب عظمت و بزرگی ولے

وَعَلَى قَوْلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَ

وَعَلَى	قَوْلِكَ	اللَّهُمَّ	إِنَّا	نَسْتَعِينُكَ	وَ
اور	تجھ	اے اللہ	بیشک ہم	مدد چاہتے ہیں	تجھ

اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ

نَسْتَغْفِرُكَ وَلَوْ مِنْ بَيْكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ

نَسْتَغْفِرُكَ	وَلَوْ مِنْ	بَيْكَ	وَنَتَوَكَّلُ	عَلَيْكَ
بخشش مانگتے ہیں	اور ایمان رکھتے ہیں	ساتھ تیرے	اور بھروسہ کرتے	پر تجھ

سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے



وَنُتِنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ

وَ نُتِنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ  
 اور شکر کرتے ہیں تم پر تجھ اچھی اور شکر کرتے ہیں تم تیرا اور نہیں ناکھری کرتے ہم تیری

ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناکھری

وَمَخْلَعٌ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا

وَ مَخْلَعٌ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا  
 اور الگ کرتے ہیں اور پھوڑتے ہیں ہم اس کو جو نافرمانی کرے تیری اے اللہ صوف تیری

نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے اے اللہ

نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيُ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي

نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيُ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي  
 ہم عبادت اور لیے تیرے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور طرف تیری دوڑتے ہیں ہم

ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے

وَمُحْفِدٌ وَتَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَمَخْشَى عَذَابِكَ

وَ مُحْفِدٌ وَ تَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَمَخْشَى عَذَابِكَ  
 اور حاضر ہوتے ہیں اور امید رکھتے ہیں ہم رحمت (کی) تیری اور ڈرتے ہیں ہم عذاب (سے) تیرے

ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور

إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُدْحِقٌ

إِنَّ	عَذَابَكَ	بِ	الْكَفَّارِ	مُدْحِقٌ
تحقیق	عذاب	تیرا	کافروں	ملنے والا ہے

تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک تیرا عذاب کفار کو ملنے والا ہے

جامع دعا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَانًا

اللَّهُمَّ	إِنَّا	نَسْأَلُكَ	إِيمَانًا
اے اللہ	بیشک	ہم سوال کرتے ہیں	ایمان

الہی! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایمان مستقیم کا

مُسْتَقِيمًا وَفَضْلًا دَائِمًا وَنُظْرًا رَحِيمَةً

مُسْتَقِيمًا	وَ	فَضْلًا	دَائِمًا	وَ	نُظْرًا	رَحِيمَةً
راست	اور	فضل	ہمیشگی	اور	نظر	رحمت

اور ہمیشگی کے فضل کا اور رحمت کی نظر کا اور

وَعَقْلًا كَامِلًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَقَلْبًا

وَعَقْلًا	كَامِلًا	وَعِلْمًا	نَافِعًا	وَقَلْبًا
اور عقل	کامل	اور علم	نفع دینے والے	اور دل

کامل عقل کا اور نفع دینے والے علم کا اور قلب

# مُنُورًا وَتَوْفِيقًا إِحْسَانًا وَصَبْرًا جَمِيلًا وَ

مُنُورًا وَ	تَوْفِيقًا	إِحْسَانًا	وَ صَبْرًا	جَمِيلًا وَ
روشن اور	توفیق	نیکی کی	اور صبر	اچھے اور

روشن کا اور نیکی کی توفیق اور اچھے صبر کا اور بڑے

# أَجْرًا عَظِيمًا وَ لِسَانًا ذَاكِرًا وَ بَدَنًا صَابِرًا

أَجْرًا	عَظِيمًا وَ	لِسَانًا	ذَاكِرًا	وَ بَدَنًا	صَابِرًا
ثواب	بڑے اور	زبان	ذکر کرنے والی	اور بدن	صبر کرنے والے

ثواب کا اور ذکر کرنے والی زبان کا اور صبر کرنے والے بدن

# وَرِزْقًا وَاسِعًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَ ذَنْبًا مَغْفُورًا

وَرِزْقًا	وَاسِعًا وَ	سَعْيًا	مَشْكُورًا	وَ ذَنْبًا	مَغْفُورًا
اور رزق	کھلے اور	کوشش	پسندیدہ اور	گناہ	بخشے ہوئے

کا اور رزق کی فراخی کا اور نیک کام کی مقبولیت کا اور گناہوں

# وَعَمَلًا مَّقْبُولًا وَ دُعَاءَ مُسْتَجَابًا وَ لِقَاءَكَ

وَعَمَلًا	مَّقْبُولًا	وَ دُعَاءَ	مُسْتَجَابًا	وَ لِقَاءَكَ
اور عمل	قبول کیے ہوئے	اور دعا	قبول کی گئی	اور ملاقات تیری

کی بخشش کا اور عمل کے قبول ہونے کا اور دعا کے قبول

# نَصِيْبًا وَجَنَّةً فِرْدَوْسًا وَّلِعِيْمًا مُّقِيمًا وَّ

نَصِيْبًا	وَ جَنَّةً	فِرْدَوْسًا	وَّ	لِعِيْمًا	مُّقِيمًا	وَّ
نصیب (دہشت)	اور جنت	الفردوس	اور	نعمت (دل)	رہنے والے (بہشت)	اور

کئے جانے کا اور تیرے دیدار کے نصیب ہونے کا اور جنت الفردوس کا

# صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَّلَوْرَعَرْشِهٖ سَيِّدِنَا

صَلَّى	اللّٰهُ	عَلٰى	خَيْرِ	خَلْقِهٖ	وَّلَوْرَعَرْشِهٖ	سَيِّدِنَا
رحمت نازل ہو	اللہ کی	پر	بہترین	مخلوق (میں سے)	اور نور عرش ہے، (کے) اس سردار ہمارے	سیدنا

ہمیشہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کی تمام مخلوق میں سے

# وَمَحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

وَمَحَمَّدٍ	وَّعَلٰى	اٰلِهٖ	وَاَهْلِ	بَيْتِهٖ	وَاَزْوَاجِهٖ	وَاَصْحَابِهٖ
محمد پر	اور پر	آل (کی)	اور والوں	گھر کے	اور بیویوں	اور صحابہ (کے)

زیادہ بہتر و افضل اور اللہ کے نور ہمارے سردار آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رحمت نازل ہو اہل آل

# وَذُرِّيَّتِهٖ اٰجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ

وَذُرِّيَّتِهٖ	اٰجْمَعِيْنَ	بِرَحْمَتِكَ	يَا اَرْحَمَ	الرَّحِيْمِيْنَ
اور اولاد (میں)	تمام	سب رحمت (کے) اپنی	یا زیادہ رحم کرنے والے	تمام رحم کرنے والوں سے

بیت پاک و ازواج مطہرات اور صحابہ اور تمام غلاموں پر اپنی رحمت کے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے

# سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ط

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ

پاک ہے والا ملک اور بادشاہی

پاک ہے ملک اور ملکوت والا پاک

# سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعِظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَ

سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعِظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَ

پاک ہے والا عزت اور بزرگی اور دبدبے اور

ہے عزت اور بزرگی و بڑائی والا اور دبدبے والا اور

# الْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ

الْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ

قدرت اور بڑائی اور طاقت پاک ہے

قدرت والا اور کبریاؤ والا اور جبروت والا جو بادشاہ ہے

# الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ ط

الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ ط

بادشاہ جو زندہ ہے وہ جو نہ سوتا ہے اور نہ وہ مرے گا

زندہ ہے نہ اس کو اونگھ اور نہ وہ مرے گا بہت ہی

سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ

سُبُوْحٌ	قُدُّوسٌ	رَبُّنَا	وَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ	وَ
بہت پاک	بے نقص و عیب سے منزہ	پروردگار ہمارا	اور پروردگار فرشتوں	اور

پاک اور مقدس ہمارا پروردگار ہے اور پروردگار ہے فرشتوں اور

الرُّوْحِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ

الرُّوْحِ	اَللّٰهُمَّ	اَجِرْنَا	مِنَ النَّارِ	يَا مُجِيْرُ
روح دکا	اے اللہ	پناہ دے تو	ہمیں سے آگ	اے پناہ دینے والے

روح اے اللہ ہم کو دوزخ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے

يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ

يَا	مُجِيْرُ	يَا	مُجِيْرُ
-----	----------	-----	----------

اے	پناہ دینے والے	اے	پناہ دینے والے
----	----------------	----	----------------

اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے

رُزْهَ رَكْنٌ وَ لِصَوْمِ عَدُوِّيْتٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

رُزْهَ	رَكْنٌ	وَ لِصَوْمِ	عَدُوِّيْتٍ	مِّنْ	شَهْرِ	رَمَضَانَ
اور اسکا	رکن	روزے	اکل	میں نے	مہینے	رمضان

میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزہ کی نیت کی

# روزہ افطار **اللَّهُمَّ اِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ**

اللَّهُمَّ	اِنِّي	لَكَ	صُمْتُ	وَبِكَ
اے اللہ	بیشک	میں نے	تیرے	روزہ رکھا اور ساتھ تیرے

اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر

# اَمِنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

اَمِنْتُ	وَعَلَيْكَ	تَوَكَّلْتُ	وَعَلَى رِزْقِكَ	اَفْطَرْتُ
ایمان لایا	اور تجھ پر	بھروسہ کیا میں نے	اور پر رزق تیرے	افطار کیا میں نے

ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق پر افطار کیا

# نماز جنازہ **لَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰی**

لَوَيْتُ	اَنْ	اُوَدِّيَ	لِلّٰهِ تَعَالٰی
نیت کی میں نے	کہ	ادا کروں میں	کیلئے اللہ بلند

میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے چار تکبیر

# اَرْبَعٌ تَكْبِيْرَاتٍ صَلَوٰةِ الْجَنَازَةِ الشَّأْءُ

اَرْبَعٌ	تَكْبِيْرَاتٍ	صَلَوٰةِ	الْجَنَازَةِ	الشَّأْءُ
چار	تکبیر	نماز	جنازہ	تعریف

نماز جنازہ ادا کروں تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے

# لِلَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ لِلرَّسُولِ وَالِدُّعَاءِ بِهَذَا

لِ	اللَّهِ	تَعَالَى	وَ	الصَّلَاةِ	لِ	الرَّسُولِ	وَ	الدُّعَاءِ	لِ	هَذَا
کیلئے	اللہ	بلند	اور	دروود	کیلئے	رسول	اور	دعا	کیلئے	اس

اور درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا اس میت

# النَّبِيِّ اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا

النَّبِيِّ	اِقْتَدَيْتُ	بِ	هَذَا	الْاِمَامِ	مُتَوَجِّهًا
میت	اقتدا کی	میرنے	کی	اس	امام

کے لیے اقتدا کی میں نے اس امام کی کعبہ شریف کی

# اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ

اِلَى	جِهَةِ	الْكَعْبَةِ	الشَّرِيفَةِ
طرف	سمت	کعبہ	بزرگ

جانب رخ کرتے ہوئے

# اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

اللَّهُ	أَكْبَرُ	سُبْحَانَكَ	اللَّهُمَّ	وَبِحَمْدِكَ
اللہ	بہت بڑا ہے	پاک ہے	تو	لے اللہ اور ساتھ تعریف تیری

اللہ بہت بڑا ہے الہی تیری پاکی (کے ساتھ) اور تیری تعریف کے ساتھ



# وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ

وَتَبَارَكَ	اسْمُكَ	وَ تَعَالَى	جَدُّكَ	وَ جَلَّ
اور بركت والا ہے	نام تیرا	اور بلند ہے	بزرگی تیری	اور بڑی شان والی ہے

تجھے یاد کرتا ہوں اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیری تعریف بڑی

# شَاوُكٌ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ۝ دوسری تکبیر

شَاوُكٌ	وَ لَا إِلَهَ	غَيْرُكَ	اللَّهُ	الْكَبْرُ
تعریف تیری اور (کوئی نہیں)	معبود	سوا تیرے	اللہ	بہت بڑا ہے

ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ بہت بڑا ہے

# درویش شریف اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اَللّٰهُمَّ	صَلِّ	عَلٰى	مُحَمَّدٍ	وَ عَلٰى
اے اللہ	درویش بھیج	اوپر	محمد	اور اوپر

یا الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل

# اِلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ

اِلِ	مُحَمَّدٍ	كَمَا	صَلَّيْتَ	وَ سَلَّمْتَ	وَ بَارَكْتَ
آل	محمد	جس طرح	درویش بھیجا تو نے	سلام بھیجا تو نے	اور بركت دی تو نے

پر رحمت بھیج جس طرح تو نے رحمت بھیجی اور سلام بھیجا اور

وَرَحِمَتْ وَتَرَحَّمَتْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

وَرَحِمَتْ وَتَرَحَّمَتْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

اور مہربانی فرمائی تو نے اور رحم کیا تو نے اور ابراہیم اور اوپر

برکت دی اور مہربانی کی اور رحم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور

إِلٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

إِلٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اے ابراہیم بیشک تو تعریف کیا گیا بزرگ

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر بیشک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا

تیسری تکبیر  
اللہ اکبر

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا

اے اللہ تو بخش دے کو زندہ ہمارے اور مردہ ہمارے اور حاضر ہمارے

بالغ کے  
لیے دعا

اللہی! بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر متوفی کو

وَعَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا

وَعَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا

اور غائب ہمارے اور چھوٹے ہمارے اور بڑے ہمارے اور مرد ہمارے اور عورت ہمارے

اور ہمارے ہر حاضر و غائب کو اور چھوٹے اور بڑے کو اور ہمارے ہر مرد

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ

اللَّهُمَّ	مَنْ	أَحْيَيْتَ	أَمْ	مِنْ	نَا	فَ	أَحْيِ	عَلَى	الْإِسْلَامِ
اے اللہ	وہ شخص	زندہ رکھے تو	جسے	سے	ہم	تو	زندہ رکھے	پر	اسلام

کو اور ہماری ہر عورت کو لے اللہ! تو ہم سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو

وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

وَمَنْ	تَوَفَّيْتِ	أَمْ	مِنْ	نَا	فَ	تَوَفَّ	عَلَى	الْإِيمَانِ
اور وہ شخص	موت دے تو	جسے	سے	ہم	تو	موت دے	پر	ایمان

اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے

اللَّهُ أَكْبَرُ جَوْشَنُ تَبَكِّيْرُ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

اللَّهُ	أَكْبَرُ	السَّلَامُ	عَلَيْكُمْ	وَرَحْمَةُ	اللَّهُ
اللہ	بہت بڑا ہے	سلامتی ہو	پر تم	اور رحمت ہو	اللہ کی

اللہ بہت بڑا ہے سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْ

اللَّهُمَّ	اجْعَلْ	لَنَا	فَرْطًا	وَاجْعَلْ
اے اللہ	کرتو	اس لیے	ہمارے	پیش رو اور

الہی! اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے بھیج کر سامان کر نوالا

لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْ لَنَا شَافِعًا وَمُسْتَفْعًا

لَنَا	اَجْعَلْ	لَنَا	شَافِعًا	وَ	مُسْتَفْعًا
لے ہمارے	دعویٰ	اس لیے ہمارے	سفاغش کرنے والا اور	اور	سفاغش قبول کیا ہے

بنادے اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور وقت پر کام آئیوالا بنا دے اور مقبول الشفاعت کر دے

**اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْ لَنَا**

نباغ لڑکی کی دعا

اللَّهُمَّ	اجْعَلْ	لَنَا	فَرَطًا	وَ	اجْعَلْ	لَنَا
اے اللہ	دعویٰ	اس لیے ہمارے	پیش رو اور	دعویٰ	دعویٰ	دعویٰ

الہی! اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے بھیج کر سامان کرنیوالی بنا دے اور

لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْ لَنَا شَافِعَةً وَمُسْتَفْعَةً

لَنَا	اَجْعَلْ	لَنَا	شَافِعَةً	وَ	مُسْتَفْعَةً
لے ہمارے	دعویٰ	اس لیے ہمارے	سفاغش کرنے والی اور	اور	سفاغش قبول کی ہوگی

اس کو ہمارے لیے اجر کی موجب اور وقت پر کام آئیوالی بنا دے اور اس کو ہمارے لیے سفاغش کرنیوالی اور مقبول الشفاعت کر دے

**تَحِيَّةُ الْوُضُوءِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ**

غیر وقت کراہت میں دو رکعت نماز تحیۃ الوضوء دو رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں۔

**نماز تہجد**

عشاء کی نماز کے بعد رات کو سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تہجد کہتے ہیں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ باور رکعتیں ہیں۔

# نماز اشراق

اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو پورے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ صرف دو رکعتیں ہیں کہ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھا ذکر الہی کرتا رہے جب آفتاب بلند ہو جائے تو پڑھے۔

# نماز چاشت

اس نماز کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیشہ پڑھنے والے کے سب گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اور اس کے واسطے جنت میں سونے کا محل ہوگا۔ اس نماز کی کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بار رکعتیں ہیں۔ اس کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک ہے۔

# نماز اوایلین

نماز اوایلین نماز مغرب کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ ● حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اُس کے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (طبرانی)

● حضرت سیدنا ابوبہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بڑی بات نہ کہے تو وہ چھ رکعتیں بارہ برس کی عبادت کے برابر شمار کی جائیں گی۔ (ترمذی)

# صلوٰۃ التسبیح

اس نماز کا بے انتہا اجر و ثواب ہے اور اس کی چار رکعتیں ہیں۔ مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء پڑھے۔ ثناء کے بعد پندرہ بار کلمہ پڑھے۔ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ"۔ پھر تعوذ اور تسمیہ اور فاتحہ اور سورۃ پڑھ کر دس بار یہی کلمہ پڑھے پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد دس بار پھر یہی کلمہ پڑھے پھر رکوع سے اٹھ کر تسمیع و تحمید کے بعد دس بار یہی کلمہ پڑھے پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد دس بار پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں دس بار پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد دس بار پھر دوسری رکعت میں فاتحہ سے پہلے پندرہ بار اور پھر اسی ترتیب سے چار رکعتیں ہر رکعت میں ۷۵ بار اور چاروں رکعتوں

میں ۲۰۰ بار کلمہ پڑھا جائے گا۔

# نماز استخارہ

استخارہ کا مطلب اللہ سے بھلائی طلب کرنا ہے یعنی جب کسی کام کا قصد کرے تو اس کے کرنے سے پہلے استخارہ کرے۔ استخارہ کرنے والا گویا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے علام الغیوب مجھے اشارہ فرما دے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ پہلے دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے۔ اس طرح نماز مکمل پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ

اللَّهُمَّ	إِنِّي	أَسْتَخِيرُكَ	بِ	عِلْمِكَ	وَ	أَسْتَقْدِرُكَ
اے اللہ	بیشک	میں	نیر	طلب	کرتا	ہوں

اے اللہ! میں تیرے علم کے ذریعہ تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور

بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ

بِ	قُدْرَتِكَ	وَ	أَسْأَلُكَ	مِنْ	فَضْلِكَ	الْعَظِيمِ
ذریعہ	قدرت	تیری	اور	مانگتا	ہوں	تیرے

تیری قدرت کے ذریعہ تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے بڑے فضل

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ

فَ	إِنَّكَ	تَقْدِرُ	وَلَا	أَقْدِرُ	وَ	تَعْلَمُ	وَلَا	أَعْلَمُ
بس	شک	تو	قدر	رکھتا	ہے	اور	نہیں	جانتا

کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ بلاشبہ تجھے قدرت ہے مجھے قدرت

وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ

وَأَنْتَ	عَلَّامُ	الْغُيُوبِ	اللَّهُمَّ	إِنْ	كُنْتَ
اور تو	خبر جانتا ہے	چھپی باتیں	اے اللہ	اگر	ہے تو

نہیں اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ

تَعْلَمَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرًا لِي فِي دِينِي

تَعْلَمَنَّ	أَنَّ	هَذَا	الْأَمْرَ	خَيْرًا	لِي	فِي	دِينِي
جانتا	بیشک	یہ	کام	بہتر ہے	لیے	میرے	میں دین میرے

اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا و آخرت میں بہتر ہے تو

وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْ لِي وَ

وَمَعَاشِي	وَعَاقِبَةِ	أَمْرِي	فَاقْدُرْ	لِي	وَ
اور زندگی	میری اور انجام	کار میرے	تو متدرک ہے	اے لیے	میرے اور

اس کو میرے لیے مقدر فرما اور آسان فرما پھر اس کام

لِي سِرًّا ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ

لِي	سِرًّا	ثُمَّ	بَارِكْ	لِي	فِيهِ	اللَّهُمَّ	إِنْ	كُنْتَ
میرے	آسان	پھر	برکت دے	تو	میرے	اے اللہ	اگر	تو

میں برکت دے اے اللہ اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری

تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي

تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي  
 جانتے ہیں کہ یہ کام بڑے لیے میرے میں دین میرے اور زندگی میری

دنیا اور آخرت میں شر اور بُرا ہے اور تو اس کو مجھ

وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ

وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ  
 اور انجامِ کار میرے تو پھیر دے تو اُسے سے مجھ اور پھیر دے تو مجھ سے اُس

سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لیے خیر مقدر

وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ

وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ  
 اور مقدر کر تو لیے میرے بہتری جہاں ہو وہ پھر دے راضی کر مجھ ساتھ اُس کے

فرما جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھ اس پر راضی فرما دے

وظیفہ شب قدر | حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو۔

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ مَحَبٌّ الْعَفْوَ فَاغْفِرْ عَنِّي - يَا غَفُورٌ يَا غَفُورٌ“

(شب قدر میں یہ وظیفہ بجزت پڑھیں)



# مستون دعائیں

**سوتے وقت پڑھے** آیۃ الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس (ایک ایک مرتبہ)

**جب بیدار ہو تو پڑھے** الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا

وَاللَّيْلَ النَّشُورُ (سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں جس نے ہمیں نیند سے سلا کر جگایا اور اسی کی جانب اٹھ کر جانا ہے۔)

**جب کپڑا پہنے تو یہ کہے** اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَیْرِہٖ وَخَیْرِ مَا هُوَ لَہٗ

وَاعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّہٖ وَشَرِّ مَا هُوَ لَہٗ۔ (اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور بھلائی اس کی جس کیلئے وہ ہے اور پناہ مانگتا ہوں میں اسکی بُرائی سے اور جس کیلئے ہے اسکی بُرائی ہے)

**گھر سے نکلنے وقت یہ کہے** بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ

مِنْ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُزِلَّ اَوْ اُزِلَّ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ یُجْهَلَ عَلَیَّ۔ (میں اللہ کا نام لے کر نکلا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں یا زیادتی کروں یا زیادتی مجھ پر برتی جائے یا نادانی کروں یا مجھ سے نادانی برتی جائے۔)

**جب بیت الخلاء میں جانے لگے تو کہے**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخُبَائِثِ -  
(اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں تیری ناپاک جنوں اور جنینوں سے۔)

**بیت الخلاء سے نکلے تو کہے**

عَفْرَانَكَ - (اللہ! میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں)

**جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو کہے**

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - (اے اللہ! اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے  
کھول دے)

**جب مسجد سے نکلنے لگے تو کہے**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَضْلٌ أَوْ رَحْمَةٌ جَاهِتَا هُوَ  
(اے اللہ! میں تجھ سے تیرا  
فضل اور رحمت چاہتا ہوں)

**جب سواری پر بیٹھے تو کہے** سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا

كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝

(پاک ہے وہ ذات جس نے اس (سواری) کو ہمارے قابو میں کر دیا ہم تو اس کو قابو میں  
نہیں لا سکتے تھے اور آخر کار ہم تو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جائیں گے۔)

**سواری سے اترتے وقت پڑھے** رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ

خَيْرَ الْمُنْزِلِينَ - اے میرے پروردگار مجھے برکت کا آنا بنا اور تو سب آنا کرنے والوں  
سے اچھا ہے۔

ایمان پوچھیں۔ شش کلمات طیبہ نماز اور پھر سلام  
اور ضروری معلومات  
لفظی با محاورہ ترجمہ کے ساتھ مکمل کتاب مستطاب ہو

مکمل نماز لفظ با لفظ ترجمہ کے ساتھ  
Full Namaz with Urdu Translation Word By Word